



ଶୁଣ୍ଟି ଶୁଣିଲି ଶୁଣ୍ଟି

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حَسَنَةً وَمَا يَرْجُو إِلَّا مُؤْمِنًا

171-Y(FBM2)/IUL/2024/104

କୁଣ୍ଡଳ ପାତା

2024 ج 11

جَنْدُونْ

PC-171/2024/W217

جَرْجِيرَةٌ مُّكَبَّلَةٌ

۶۰۰ میلیون دلار را برای این پروژه در سال ۱۳۹۷ خریداری کرد.

جُمِيعَ الْمَرْءَاتِ

Renting out a building for Lh.Hinnavaru Police Station

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

١٢٦

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حُكْمًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو مَسْعَدًا

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

وَمُؤْمِنٌ بِهِ مَا يَعْلَمُ وَكَفَىٰ بِهِ عَنِ الْجُنُوبِ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

٦.٠	٦.٠ ٦.٠	٦.٠	٦.٠
٦.١	٦.١	٦.١	٦.١
٧.٠	٧.٠ ٧.٠	٧.٠	٧.٠
٧.١	٧.١	٧.١	٧.١
٨.٠	٨.٠ ٨.٠	٨.٠	٨.٠
٨.١	٨.١	٨.١	٨.١
٩.٠	٩.٠ ٩.٠	٩.٠	٩.٠
٩.١	٩.١	٩.١	٩.١
١٠.٠	١٠.٠ ١٠.٠	١٠.٠	١٠.٠
١٠.١	١٠.١	١٠.١	١٠.١
١٠.٢	١٠.٢ ١٠.٢	١٠.٢	١٠.٢
١٠.٣	١٠.٣	١٠.٣	١٠.٣
١٠.٤	١٠.٤	١٠.٤	١٠.٤
١١.٠	١١.٠ ١١.٠	١١.٠	١١.٠
١١.١	١١.١	١١.١	١١.١
١١.٢	١١.٢	١١.٢	١١.٢

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

11.3	جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلُونَ رَبَّهِمْ مَعْنَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَيَوْمَئِذٍ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَرْجُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ
11.4	إِنَّمَا يُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ كِتَابٍ إِذَا آتَيْتَهُمْ إِنْذِنَةً فَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ وَكُلُّ أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِينَ يَأْتُوكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
12.0	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
12.1	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
12.2	-
12.3	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
12.4	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
12.5	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
12.6	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
12.7	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
12.8	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
13.0	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
13.1	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
13.2	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
13.3	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ
13.4	وَمَا يَرْجُونَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَرْجُونَ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَبِطُ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ يَرْتَبِطُ بِالْأَنْفَوْدِ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَبِطُ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ يَرْتَبِطُ بِالْأَنْفَوْدِ

سُورَةُ الْمُحْمَّدِ ۖ ۗ ۚ ۖ ۖ ۖ

#	رئیس ادارہ میراث فلسطین	رئیس ادارہ میراث فلسطین
1	<input type="checkbox"/> صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 1)	صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 1)
2	<input type="checkbox"/> صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 2)	صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 2)
3	<input type="checkbox"/> اگر رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	اگر رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
4	<input type="checkbox"/> رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
5	<input type="checkbox"/> صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
6	<input type="checkbox"/> اگر رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	اگر رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
7	<input type="checkbox"/> اگر رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	اگر رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
8	<input type="checkbox"/> کوئی حکم میں مذکور ہے / کوئی حکم میں مذکور ہے	کوئی حکم میں مذکور ہے / کوئی حکم میں مذکور ہے
9	<input type="checkbox"/> کوئی حکم میں مذکور ہے / کوئی حکم میں مذکور ہے	کوئی حکم میں مذکور ہے / کوئی حکم میں مذکور ہے
10	<input type="checkbox"/> رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
11	<input type="checkbox"/> کوئی حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	کوئی حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
12	<input type="checkbox"/> کوئی حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	کوئی حکم میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
13	<input type="checkbox"/> صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے	صورت رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے
14	<input type="checkbox"/> - گرفتار ہوئے 3 کرنی میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)	- گرفتار ہوئے 3 کرنی میں مذکور ہے (حکم نمبر 6)
15	<input type="checkbox"/> رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے	رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے
16	<input type="checkbox"/> بیانیہ میں مذکور ہے	بیانیہ میں مذکور ہے
17	<input type="checkbox"/> صورت کے مطابق رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے	صورت کے مطابق رئیس ادارہ میراث فلسطین کے حکم میں مذکور ہے

ج ۱۰۰۴۶

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَبِطُ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ يَرْتَبِطُ بِالْأَنْفَوْدِ

جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْصَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُذْلَلَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُؤْتَى حُكْمًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُغْرَيْنَاهُ بِأَنْ يُؤْتَى حُكْمًا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَعْلَمُ بِالْأَفْعَالِ

(٣٥) - مراجعة تقويمية - تقويمية

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS,[name of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Project no.....issued by the Ministry of Communication,Science & Technology onfor construction of[name of Contract] (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We [name of Bank] of
..... [name of country] having our registered office at
..... (hereinafter called "the Bank") are
bound unto [name of Purchaser] (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of
* for which payment well and truly to be made to the said Purchaser,
the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this day of 20.....

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;
or
(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
 (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE **SIGNATURE OF THE BANK**

Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To: _____
[name & address of Purchaser]

WHEREAS [name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. dated to execute [name of Contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract");

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract:

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of * [amount of Guarantee] [amount in words], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR

Name of Bank _____

Address

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

٥ - مَوْلَانَا مُحَمَّدْ جَعْلَنْ (جَعْلَنْ) مُؤْلِمُ شَرِيفٍ

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To: _____

[name & address of Purchaser]

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,
..... [name and address of Supplier] (hereinafter
called "the Supplier") shall deposit with
..... [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance
under the said Clause of the Contract in an amount of[amount of Guarantee]
..... [amount in words].

We, the

[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding * [amount of Guarantee] [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between [name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition or modification.

* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until [name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly

SIGNATURE AND SEAL: _____

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

٦ - حِمْرَوْنُ

ج ٦ (مکتبہ میرزا علی شاہ) میرزا علی شاہ (سید علی شاہ مسٹر)

#	مَوْعِدُوكَلَّا
1	نَوْرٌ - قَوْمَى سَرْتَرْجَى 03 (مُبَشَّر) أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو.
2	نَوْرٌ - قَوْمَى سَرْتَرْجَى 03 نَجْمَى بَرْجَى قَرْجَرْخُو أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو.
3	نَجْمَى بَرْجَى: 100 أَنْجَجَى قَرْجَرْخُو أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو.
4	سَوْحَرْدَى: 150 أَنْجَجَى قَرْجَرْخُو أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو.
5	نَوْرٌ - قَوْمَى سَرْتَرْجَى 06 سَرْجَرْجَى بَرْجَى قَرْجَرْخُو أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو. مُبَشَّرٌ: 100 أَنْجَجَى قَرْجَرْخُو 144 أَنْجَجَى قَرْجَرْخُو.
6	نَجْمَى - مُبَشَّرٌ: 100 أَنْجَجَى قَرْجَرْخُو أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو.
7	نَوْرٌ - قَوْمَى سَرْتَرْجَى 60 أَنْجَجَى قَرْجَرْخُو أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو. وَسَوْحَرْدَى: قَرْجَرْخُو سَوْحَرْدَى بَرْجَى، نَاجِرْجَى بَرْجَى قَرْجَرْخُو أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو.
8	نَجْمَى - قَوْمَى (نَجْمَى بَرْجَى 06 رَجَسْرَسْ): قَوْمَى سَرْتَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَرْجَى.
9	نَوْرٌ - قَوْمَى 06 قَوْمَى سَرْتَرْجَى سَرْجَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى نَجْمَى بَرْجَى أَرْجَنْ قَرْجَرْخُو.
10	نَوْرٌ - قَوْمَى سَرْتَرْجَى 06 سَرْجَرْجَى بَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى.
11	سَوْحَرْدَى قَوْمَى سَرْتَرْجَى سَرْجَرْجَى سَوْحَرْدَى قَوْمَى سَرْتَرْجَى.
12	سَوْحَرْدَى سَرْجَرْجَى بَرْجَى سَرْجَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى.
13	سَوْحَرْدَى قَوْمَى سَرْتَرْجَى سَرْجَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى.
14	(13x8) قَوْمَى سَرْتَرْجَى سَرْجَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى.
15	قَوْمَى سَرْتَرْجَى 8 قَوْمَى سَرْتَرْجَى سَرْجَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى. قَوْمَى سَرْتَرْجَى سَرْجَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى سَوْحَرْدَى بَرْجَى.

٢٦

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

جَرْوَى ٧ (جَرْسَحْ سُونْعَدْ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-1- دیگر کسی سچ نمایند و بگویند (دیگر کسی نمایند و بگویند)

-2 - شرکت ملی پست و تلگراف

- **تَعْلِمُونَ** مَنْ يَرِيدُ
وَيَقُولُ لِلَّهِ إِنِّي
أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
وَلَكُمْ أَنْتُمُ الْمُحْكَمُونَ.
 - **تَعْلِمُونَ** مَنْ يَرِيدُ
وَيَقُولُ لِلَّهِ إِنِّي
أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
وَلَكُمْ أَنْتُمُ الْمُحْكَمُونَ.
 - **تَعْلِمُونَ** مَنْ يَرِيدُ
وَيَقُولُ لِلَّهِ إِنِّي
أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
وَلَكُمْ أَنْتُمُ الْمُحْكَمُونَ.

ଶ୍ରୀ କମଳାଚାର୍ଯ୍ୟ

፩ X

۳۷

• 03 ፳፻፲፭ ዓ.ም. በፌዴራል ስርዕተኞች የዚህ አገልግሎት መመሪያ የሚያስፈልጋል.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَجِعُ فَلَا يَنْهَا عَنْ دِرَكِهِ وَمَنْ يَرْتَجِعُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

• ۰۵ تاریخ و مکان ثبت این اسناد را مشخص کنید.

• ፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም. ተወስኝ እንደሆነ የፌዴራል

• ١٠٣٦٢ تاریخ پیر کارگردانی مکانیزه را رسماً از این سری تحریر شد.

• تَعَالَى مُرْسِلُ الْحُكْمِ إِلَيْهِ مُؤْمِنٌ بِهِ وَمُخْلِصٌ لِّهِ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا بِقُوَّتِيَّةِ حُكْمِهِ وَكَفَى بِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ

نَارَ كِبِيرٍ سُرْجَعَ حَمَرٌ قُسْرٌ دَعَجَ سَرْدَقَ حَمَرٌ، دَعَجَ سَرْدَقَ سُرْجَعَ حَمَرٌ قُسْرٌ وَ قُسْرَقَ حَمَرٌ كِبِيرٌ دَعَجَ سَرْدَقَ حَمَرٌ قُسْرٌ

۱۷۶

4- (፳፻፲፭) ተመዝግች የሚሸፍ ስርዓት

• ١٠٥٦ م د ٥٣٢ ١٥٣٧ س ١٥٣٨ س ٥٣٣

• ١٠ ٥٢٦٣ ٢٠١٩ ١٧-١٨-٢٠١٩ ٥٢٦٣ ٢٠١٩

• ١٠ مارس ٢٠٢٣ء تاریخ ویراستاری کے لئے ۰۳ جنوری ۲۰۲۴ء کو تکمیل کیا گی۔

جَهْرُواْتٌ 8

#	مَوْسُوٰةٌ	عَلَيْهِ (جَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ)	جَرْجَرٌ (03) مَرْجَرٌ
01	مَوْسُوٰةٌ	عَلَيْهِ (جَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ)	جَرْجَرٌ (03) مَرْجَرٌ

..... جریانی میگیرد و از آن بخوبی استفاده شود.

مِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ وَمَنْ يَرْجُو مَوْلَانَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَعَ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَعْلَمَ بِمَا يَعْمَلُ إِنَّمَا يَرْجُو مَوْلَانَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَانَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَعَ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَعْلَمَ بِمَا يَعْمَلُ إِنَّمَا يَرْجُو مَوْلَانَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥٠ مَرْتَبَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَرْتَبَةٌ لِلْمُؤْمِنَاتِ

جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جَرْجَرٌ، جَرْجَرُ سَرْدٍ نَّسْرَدُ

صَوْرَتِي وَجَدَتِي سُرُورٌ لِّلْمَرْأَةِ الْمُكْبَرَةِ وَسُرُورٌ لِّلْمَرْأَةِ الْمُنْكَبَرَةِ - فَوَجَدَتِي حَمْرَرَةً

١. حَدَّسَهُمْ رَبُّهُمْ مَوْلَاهُمْ رَبُّهُمْ

دَوْلَةُ سُكُونٍ	مُؤْمِنٌ	سُكُونٌ	دَوْلَةُ سُكُونٍ
سُكُونٌ	مُؤْمِنٌ	دَوْلَةُ سُكُونٍ	(دَوْلَةُ سُكُونٍ / دَوْلَةُ سُكُونٍ)

• 2 / جمیع حقوق محفوظ هستند

گُوئی گُوئی گُوئی		گُوئی گُوئی گُوئی
--	---	--

.3 دَوْلَةُ الْمُؤْمِنِينَ

<p style="text-align: right;">دَارُ الْمَكَانِ:</p> <p>دَارُ سَعَادَةٍ وَمَوْرِبٍ (دَارُ سَعَادَةٍ وَمَوْرِبٍ دُوَّلَتِي وَشَجَرَةٌ حَسَنَةٌ تَرَكَهُ قَسَّهُ، وَ حَسَنَةٌ تَرَكَهُ مَهْرَبًا تَرَكَهُ مَهْرَبًا):</p>	
---	--

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

مُؤْمِنٌ: **مُؤْمِنٌ** مُؤْمِنٌ: **مُؤْمِنٌ** مُؤْمِنٌ: **مُؤْمِنٌ** مُؤْمِنٌ: **مُؤْمِنٌ**

۷۰ مَوْلَانَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ

مُرْسَلٌ: حَفَّارُ الْجَنَاحِيَّةِ رَسُولُ الْمُصْرِفِ الْمُرْسَلِ وَقَوْنَاصُ الْمُرْسَلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دِ بَرْ سَهْ عَيْرَ لَخْرُ وَ بَرْ سَهْ رَهْتَهْ لَهْرَهْ عَيْرَ لَخْرَهْ
لَخْرُ، بَرْ سَهْ رَهْتَهْ

“مَنْ يَرْتَعُ فِي الظُّلْمِ إِنَّمَا يَرْتَعُ عَلَيْهِ”
أَنْ تَرْكِيَةُ الظُّلْمِ مُؤْكِدَةٌ بِالظُّلْمِ

١- جَوَاهِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَرَّهُ وَسَرَّهُمْ

	میں کوئی نہیں	کوئی نہیں کوئی نہیں	کوئی نہیں کوئی نہیں
--	------------------	------------------------	------------------------

٢ . دَرْسَةٌ مُعَمَّلَةٌ بِالْمَعْرِفَةِ

٣- دَوْلَةُ الْمُهَاجِرَاتِ مَوْفَدٌ مُّسَمَّدٌ	٢- دَوْلَةُ الْمُهَاجِرَاتِ مَوْفَدٌ مُّسَمَّدٌ	١- دَوْلَةُ الْمُهَاجِرَاتِ مَوْفَدٌ مُّسَمَّدٌ
سَرَّهُهُمْ مُّنْهَىٰ	سَرَّهُهُمْ مُّنْهَىٰ	سَرَّهُهُمْ مُّنْهَىٰ
مَوْفَدٌ مُّسَمَّدٌ	مَوْفَدٌ مُّسَمَّدٌ	مَوْفَدٌ مُّسَمَّدٌ
دَوْلَةُ الْمُهَاجِرَاتِ	دَوْلَةُ الْمُهَاجِرَاتِ	دَوْلَةُ الْمُهَاجِرَاتِ

٣ . مَوْلَانَى

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

جَاهَتْ كَلْمَنْتْ كَلْمَنْتْ كَلْمَنْتْ كَلْمَنْتْ

۱۰۷

(ر) فریاد مسیح خواسته است که سرمه را کمتر نماید و سرمه را کمتر نماید و فرموده است که سرمه را کمتر نماید.

(سر) ۶ صورتی که سارق بگذارد پرداخت میکند و درینجا نیز ممکن است این مبلغ را در پیشنهاد نماید.

(ج) درجهات حرارة سرد و سخن در نزدیکی سرمهای این ماده برابر باشد.

۱۶۷۰ میلادی در این سال نیز این اتفاق رخورد و این باره از طرف شاهزادگان ایرانی اتفاق رخورد.

مکالمہ میں اپنے نام کا ذکر کرنے والے ملکوں کا لیسٹ

۱۰۰ سرگزیده روزانه

۱۵۲۰ میلادی در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی

٢٠٠ سرچ: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} \text{dist}(x_j, y_i)$ یا $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} \sqrt{(x_j - y_i)^2 + (y_j - z_i)^2}$

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

شەھىدىم 3 (ئەنۋەتەرەتىق) ئەنۋەتەرەتىق

خَيْرُكُمْ مَنْ عَصَمَ سَوْرَى سَرَّتْ رِبَرَى شَرَّهَ حَمَّادَهَ سَوْرَى

مَوْبِدٌ مُّؤْلِحٌ نَّجِيْعٌ نَّجِيْرٌ وَسَرَّ تَرْوِيْجٌ عَوْنَى وَرَأْيٌ مُّسْتَوْدِيْرٌ

1.1

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو
أَنْ يُنْهَا رَبِيعَ الْعَدْلِ
وَالْمُؤْمِنُونَ لِيَقْرَأُوا
مَا أَنزَلْنَا وَمَا
لَا يَنْهَا رَبِيعَ الْعَدْلِ
وَالْمُؤْمِنُونَ لِيَقْرَأُوا
مَا أَنزَلْنَا وَمَا
لَا يَنْهَا رَبِيعَ الْعَدْلِ

۱.۲

لَمْ يَرُدْ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ إِذَا دَعَا إِلَيْهِ مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ بِالْحَقِيقَةِ مِنْ أَنْ يَرَى الْحَقِيقَةَ إِلَّا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ وَمَنْ يُنَزَّلَ مِنْ رَبِّهِ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ بِهِ مَنْ يَرَى

٢. نَوْرُ الْجَنَاحِيَّةِ مُؤْمِنٌ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَبِطُ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ يَرْتَبِطُ بِالْأَنْفَوْدِ

جی گرسر پشتو کو جو نار گور ووس " پخته گو " گرسر یکرو.

3

۴



۵۰۰ میلیون

۱۰۰۰ سرمه سرمه

م. نامندر دیگر ترجیح نموده است که این سرچشمه را با نام «سرچشمه ۱۰» (که در آغاز میانه) شناسند.

٦. تَعْلِمُونَ

جَوْزِيَّةٌ مُرْجَعٌ إِلَيْهِ حَرْبُورٌ بَلْ قَوْنَارٌ مُرْسَلٌ.

۷

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حَيَاةً دُنْدُوناً فَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَرْدَقٌ

س. ۶۰۰ میلیونی کمکی را ترکیه، ایران و افغانستان در حوزه اقتصادی خود را برای این ساخته دارند.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو
أَنَّ رَبَّهُمْ يُغْرِيَهُمْ
فَلَا يَرْجِعُوهُمْ إِلَيْهِمْ
لَا هُمْ يَرْجِعُونَ

٨. جمیع افراد مسکن کوئٹہ کے مکانیوں پر ڈینے والے

جَنَاحُهُمْ سَرِيرٌ (أَخْرَى فِي حَرْبٍ وَآخَرُ فِي سَرِيرٍ) تَحْتَهُ أَرْضٌ.

س. دلیل اور کوئلے فرمادیں کہ میر جنگلی کو خود کو اپنے ساتھ لے کر بڑھانے کا سفر کرنے کا وہی کام تھا جو اپنے پیارے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر بڑھانے کا کام تھا۔

٩. دَنْدَنْتَرْ رَغْ قَرْقَمْسَرْ كَرْكَلْسَرْ كَرْكَلْسَرْ كَرْكَلْسَرْ

م. دیکھوں ناہر ریگیت ایڈیشنز کی طرف سے 2000 میٹر کی فارمیٹی مونٹی، دیکھوں سرگودھا پر واقع ہے۔ اس کی تعمیرات 2002ء میں ہوئی تھیں۔ اس کی تعمیرات 2002ء میں ہوئی تھیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَهِي لِلْجَنَاحِ وَكَانَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

رسوی قویو دو خر شکر ملای ترمه خردش.

۸۰- دیگر تحریر (خ) که نوشتار را فرموده است و متن این تحریر در پایه این مقاله قرار دارد.

This decorative horizontal banner features a central, large, stylized Arabic calligraphic element, possibly reading "الحمد لله رب العالمين" (Al-Hamdu lillah Rabb al-`Alameen). The banner is framed by two thick, black, horizontal bars at the top and bottom. The background is white, and the entire design is rendered in a bold, black, sans-serif font.

وَمِنْ أَنْتَرُهُ تَعْلَمُونَ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ
كُلُّ أَنْسَابٍ إِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ

10. نَوْمٌ وَنَعْدَادٌ وَنَسْرٌ وَنَفْرٌ وَنَجْدٌ وَنَجْدَانٌ وَنَجْدَانَيْنٌ

مَوْتُهُ فِي سُرُومَةِ طَوْلَانَجِ نَبَّارَجِ سُرُورِيَّ مَوْرِيَّ سُرُورِيَّ مَوْرِيَّ سُرُورِيَّ مَوْرِيَّ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

۰۰۷۸۷ - ۱۵۵۰ میلادی تاریخ سفر ناصر خسرو

س. ن ۰۰۷۰ رجیستر شد و مکرر شد از آن پس مجدداً تا کنون تغییری در آن نموده است.

መ. ቦ.ዕትር ስ.ኋትር ከ.ሸምዎች ማ.ሸምዎች ተ.ሸምዎች ጥ.ሸምዎች የ.ሸምዎች የ.ሸምዎች የ.ሸምዎች

۸۰- نیز این رخداد برای سرمه میگیرد و این را در عصر اسلام میتوان در کتب طبیعتی مشاهده کرد.

۳۰. اَنْتَ مَوْلَانَا وَرَبُّنَا وَجِدَارُنَا وَجَنَاحَتُنَا، سَوْلَانُنَا فَهَذِهِمْ

٧- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلٰى مَنْ حَرَمَهُمْ

س. دارو جمیلی خبری (۱) دارو جمیلی خبری (۲) دارو جمیلی خبری (۳) دارو جمیلی خبری (۴)

۱۲. نویسندگان از اینجا شروع می‌کنند

۰۳ تاریخ پذیرش درخواست از سازمان ملی خودگردانی ایران

.13 مرحومہ فرمائیں

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ مُجْرِمًا، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ مُجْرِمًا

۱۴. مکالمہ جو سرگردانی کے لئے مکالمہ کا نمونہ ہے۔

مَنْ يَرِدُ فَلْيَأْتِ وَمَنْ يَرِدُ فَلْيَأْتِ مَنْ يَرِدُ فَلْيَأْتِ وَمَنْ يَرِدُ فَلْيَأْتِ

፩. በዚህ የትምህር ነገር የጥምህር ጽሑፍ ስርጓሜዎች ተከተል ይችላል፡፡ ስርጓሜዎች ተከተል ይችላል፡፡

15. مکالمہ کے ایک ایسا حصہ ہے جو مکالمہ کا سارا محتوا پر مبنی ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حَيَاةً دُنْدُوناً فَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَرْدَقٌ

۱۶ . میرزا علی شریعتی

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶକ । ୧୭

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْرَجَ إِلَيْهِمْ وَمَا يَرْجُونَ إِلَّا مَا هُنَّ بِهِ أَهْلٌ وَمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ إِنَّهُمْ لَكَافِرٌ إِنَّمَا يُنَهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ عَنْ أَنَّهُمْ يَقْرَأُونَ وَمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ إِنَّهُمْ لَكَافِرٌ إِنَّمَا يُنَهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ عَنْ أَنَّهُمْ يَقْرَأُونَ

۱۸ . مکالمہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام

لَيْلَةَ الْمُحْرَمِ حَفَظْنَاكُمْ مِّنَ الْمُنْجَرِ
وَلَيْلَةَ الْمُحْرَمِ حَفَظْنَاكُمْ مِّنَ الْمُنْجَرِ

This decorative horizontal border is composed of a repeating pattern of stylized Arabic calligraphy, specifically the letter 'Kaf' (ك). The letters are rendered in a bold, black, italicized font. Above and below the main row of 'Kafs' are two rows of smaller, thin, light-colored calligraphic strokes. The entire design is set against a white background.

جیلگیری کے مکانات ۱۹

ጥርሻ የወጪ በኋላ እንደ ተስፋዎች መሆኑን የሚያስተካክል ይችላል.

۲۰. **الْمُؤْمِنُونَ** **الْمُؤْمِنُونَ** **الْمُؤْمِنُونَ**

۴- نَوْمَنْدَرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ نَوْمَنْدَرْ بَعْلَقَرْ قَرْمَهْمَرْ قَرْنَبِيرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ سَرْجَنْ
۳- قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ قَرْنَبِيرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ
۲- قَرْنَبِيرْ سَرْجَنْ قَرْنَبِيرْ نَوْمَنْدَرْ بَعْلَقَرْ قَرْمَهْمَرْ سَرْجَنْ قَرْنَبِيرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ
۱- سَرْجَنْ قَرْنَبِيرْ نَوْمَنْدَرْ بَعْلَقَرْ قَرْمَهْمَرْ سَرْجَنْ قَرْنَبِيرْ قَرْنَبِيرْ قَرْمَهْمَرْ سَرْجَنْ قَرْنَبِيرْ

م۔ دوست میرزا ریاضی نے اپنے تین بھائیوں کے ساتھ اپنے پیارے بھائیوں کے لئے ایک خوبصورت قبری میں اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ دفن کر دیا۔

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ । ୨୧

٢٢ . مَرْوِيٌّ حَمْزَةُ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْرَجَ إِلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْرَجَ إِلَيْهِمْ

۲۳

٢٤ . مَوْلَانَةُ الْمُهَاجِرَةِ

۱۰۶۴. شرومن در ۱۹۰۶ میلادی در اینجا زنگنه شروع شد و میتوانست در ۱۹۰۷ میلادی

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَبِطُ بِالْجَنَّةِ وَمَنْ يَرْتَبِطُ بِالْأَنْفَوْدِ

۶۶۶ **شیخ** **ابن حجر**

مکتبہ میرزا نصرت علی

حَدَّقَ: إِنْجَرْجَعَ إِنْجَوَتْ قَبْرَسْتَرْتَهُ أَسْرَعَ أَسْمَعَ حَسْرَجَ حَسْرَجَ

مودودی مکتبہ

二十一

כ' ט' ט' ט'

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ

مَرْسَى: مُخْرَجٌ مُّرْسَى

۲۷۳

مکتبہ مولانا علی گل

١٦٢

१८

A row of large, stylized black Arabic numerals from 1 to 10. The numerals are bold and have a modern, rounded font. They are arranged horizontally, with a small gap between each digit.

10 of 10

10 of 10

A254067: سُرِّيَّةٌ مُّنْكَرٌ مُّنْكَرٌ مُّنْكَرٌ مُّنْكَرٌ مُّنْكَرٌ

1

٢- سریز: ٥ گرمهج ٦٧٦٤ اخیر سریز عربی ٩٠٠٤ اخیر سریز

۱۰۶

جَرْوَرٌ جَرْوَرٌ جَرْوَرٌ جَرْوَرٌ جَرْوَرٌ جَرْوَرٌ

١٢

وَمُرْتَجِيٌّ لِلْجَنَاحِ مَوْلَى الْمُكَفَّرِينَ، وَمُرْسِلٌ شَوَّحَ أَهْمَارَ مَوْلَى الْمُكَفَّرِينَ

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା

(۲)



وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

٢

۱۰۰۰ متری عرض

(٩)

#	الرّاجحُ تَوْسِيٌّ	الثَّقَلَيْنِ	الثَّقَلَيْنِ	الرّاجحُ تَوْسِيٌّ	الرّاجحُ تَوْسِيٌّ
وَسَرَ	وَسَرَ	وَسَرَ	وَسَرَ	وَسَرَ	وَسَرَ

جَوَافِرْ نَفْجَرْ مُهَاجِرْ مُهَاجِرْ نَفْجَرْ جَوَافِرْ

وَمُرْتَجِيٌّ لِلْجَنَاحِ مَوْلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَمُرْسِلٌ شَوَّحَ حَمْرَةَ الْمُهَاجِرِينَ

٣ ^ج_ج

(٢٠)

١٠٣-١٠٤		١
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.1
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.2
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.3
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.4
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.5
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.6
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.7
سَرَتْنَ	سَرَتْنَ	1.8

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ، وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَمُسْتَقِرٌ بِعِلْمِ رَبِّهِ

(۲۰)

1			
1.1	سریں	سریں	
1.2	خوشی سریں	خوشی سریں	
1.3	خوشی سریں / خوشی سریں	خوشی سریں / خوشی سریں	
1.4	خوشی سریں	خوشی سریں	
1.5	خوشی سریں	خوشی سریں	
1.6	خوشی سریں	خوشی سریں	
1.7	خوشی سریں	خوشی سریں	
2			
2.1	خوشی سریں	خوشی سریں	
2.2	خوشی سریں	خوشی سریں	
2.3	خوشی سریں / خوشی سریں	خوشی سریں / خوشی سریں	
2.4	خوشی سریں	خوشی سریں	
2.5	9790052	خوشی سریں	
2.6	خوشی سریں	خوشی سریں	
2.7	@police.gov.mv procurement@police.gov.mv	خوشی سریں	